

131397 - کیا دوائی ملے ہوئے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی ؟

سوال

اگر کوئی بچہ عورت کے دودھ میں ملی دوائی والا دودھ پیتا ہے اور یہ پانچ یا چھ بار سے زائد ہو تو کیا اسے شرعی رضاعت کا حکم دیا جائیگا یا نہیں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

" بلاشك و شبه شرعی شرط کے ساتھ رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی، شرط یہ ہے کہ رضاعت پانچ رضعات دو برس کی عمر میں ہو، اس لیے اگر دودھ میں دوائی وغیرہ دوسری چیز ملا کر پلایا جائے تو یہ معروف اثر کریگا، اگر پانچ بار یا اس سے زائد بچے کو دو برس کی عمر میں پلایا گیا ہو تو اسے پانچ رضعات کا حکم حاصل ہوگا.

جب دودھ کا یقینی اثر ہو یعنی اسے دودھ کہا جائے اور وہ دوائی سمیت بچے کے پیٹ میں یا پھر اکیلا جائے تو اس سے حکم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی.

کیونکہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر دودھ نکال کر بچے کو پستان کے قائم مقام بنا کر دیا گیا ہو تو اسے علم ہونے کی صورت میں رضاعت کا حکم حاصل ہوگا " انتہی

فضیلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .